

آنکھوں میں بس گیا ہے

سیرا پاجھضوں کا

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ



منفی محمد خان قادری

سلسلہ مفت اشاعت
نمبر 109

سلسلہ مفت اشاعت
نمبر 109

نور مسجد کاغذی بازار میٹھا در کراچی

الاهداء

صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، جنہوں نے آپ ﷺ کے وصال کی خبر سن کر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی۔
"اے میرے پروردگار! میری بینائی ختم فرما دے تاکہ میں اپنے محبوب حضرت محمد ﷺ کے بعد کسی کو دیکھ ہی نہ سکوں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔"

ادنیٰ خادم

محمد خان قادری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ ﷺ

نام کتاب : آنکھوں میں بس گیا ہے سراپا حضور ﷺ کا
مصنف : حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خان قادری صاحب
صفحات : 24 صفحات
تعداد : 2000
سن اشاعت : مارچ 2003ء
مفت سلسلہ اشاعت : 109

☆☆ ناشر ☆☆

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان

نور مسجد کاغذی بازار، بیٹھادر، کراچی۔ فون: 74000-2439799

زیر نظر کتابچہ "جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان" کے تحت شائع ہونے والے سلسلہ مفت اشاعت کی 109 ویں کڑی ہے۔ یہ کتابچہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خان قادری صاحب کی تصنیف لطیف ہے اور علامہ موصوف کی شخصیت اہلسنت وجماعت کے لیے کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان نے اس کتاب کی از سر نو کتابت کروائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علامہ موصوف کے علم میں عمر میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کے سایہ عاطفت کو ہم اہلسنت وجماعت پر تادیر دراز فرمائے اور ان کو یوں ہی مسلک اہلسنت وجماعت کی خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین ﷺ

فقط..... ادارہ

حسن ترتیب

- ☆ انتساب
- ☆ ابتدائیہ
- ☆ تصور رسول کے لئے ذکر حلیہ و سراپا
- ☆ آپ کا سراپا اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا معمول
- ☆ مجھ سے آپ ﷺ کا سراپا سن لو..... صحابی کا اعلان
- ☆ اب تو میں بھی پہچان سکتا ہوں۔
- ☆ مجھے آپ کے حسن و جمال کے بارے میں بتائیں
- ☆ آپ چودھویں کے چاند جیسے تھے
- ☆ حضرت ام مبعداور آپ کا سراپا
- ☆ یہ بکری ہمارے پاس دوڑا قاروتی تک رہی
- ☆ مجھے بھی ان کا سراپا سنائیے
- ☆ مجھے آپ ﷺ کے سراپا کے بارے میں آگاہ کیجئے
- ☆ ذکر حلیہ و سراپا کا اہم فائدہ
- ☆ چند محفوظ اداؤں کا تذکرہ
- (۱) مبارک ہونٹوں کے نیچے مسواک دیکھ رہا ہوں
- (۲) سیاہ عمامہ کے کونے مبارک شانوں کے درمیان
- (۳) مانگ میں خوشبو، چمک کا حسین منظر
- (۴) انگوٹھی کو چمکتا دیکھ رہا ہوں
- (۵) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک سوال
- (۶-۷) مبارک بظلوں کی سفیدی میری آنکھوں کے سامنے ہے
- (۸) پنڈلیوں کی زیارت کا پرکھ منظر

- (۹) سر مبارک پر ہاتھ رکھنا ہمیشہ یاد آتا ہے
- (۱۰) چہرہ اقدس کی سفیدی اور زلفوں کی سیاہی ہمیشہ نظروں کے سامنے رہتی ہے
- (۱۱) اب تک سینے میں ٹھنڈک ہے
- (۱۲) پاؤں کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں
- (۱۳) سبابہ کا حسن نہیں بھولتا
- (۱۴) مبارک بازؤں کی چمک اب بھی دیکھ رہا ہوں
- (۱۵) اب تک دیوار پر دست اقدس کا نشان دیکھ رہی ہوں
- (۱۶) میں انگلی چوستے ہوئے دیکھ رہا ہوں
- (۱۷) نماز میں آپ ﷺ کا ہاتھ باندھنا مجھے نہیں بھولتا
- (۱۸) اب تک جی میں سیرابی ہے
- (۱۹) اب تک سینے میں ٹھنڈک ہے
- (۲۰) بوریا سے پانی کا بہنا دیکھ رہی ہوں
- (۲۱) آپ ﷺ کی قربانیوں کی گانیاں نگاہوں میں
- (۲۲) دست مبارک کو حرکت دینے سے ہونٹے دیکھ رہا ہوں
- (۲۳) دست مبارک کے اشارہ سے لوگوں کو بٹھانا اب بھی میرے سامنے ہے
- (۲۴) آپ ﷺ کا پاؤں کو حرکت دینا نہیں بھولتا
- (۲۵) رسول اللہ ﷺ کا ذوالہجاء میں اتارنا میری نگاہوں کے سامنے ہے
- (۲۶) چہرہ اقدس کی سفیدی آج بھی آنکھوں کے سامنے ہے
- (۲۷) اب بھی چہرہ اقدس سے خون صاف کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں
- (۲۸) رخسار مبارک کی سفیدی میرے سامنے ہے
- (۲۹) خدمت اقدس میں جانا مجھے نہیں بھولتا
- (۳۰) عمیہ کی گھائیوں سے تشریف لانا میری نگاہوں میں ہے

ابتدائیہ

صحابہ کرام کو حضور ﷺ سے جو محبت و عقیدت اور عشق تھا اس کی مثال دنیا میں پیش نہیں کی جاسکتی۔ ان کے مقابل مجنوں و لیلیٰ اور سسی بنوں کی محبت کے قصے بچہ دکھائی دیتے ہیں، آپ ﷺ کے ساتھ صحابہ کی وارفتگی اور والہانہ لگاؤ کو دیکھ کر منافقین و مخالفین انہیں پاگل، بے وقوف اور دیوانہ کہتے۔ قرآن نے اس کی نشاندہی اپنے ان مقدس الفاظ میں فرمائی۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ

جب ان مخالفین سے کہا جاتا ہے تم ان لوگوں (صحابہ) کی طرح ایمان لے آؤ۔

تو وہ جھابٹھن کرتے ہوئے کہتے:-

أَفُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ

کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ دیوانے اور بے وقوف ایمان لائے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ

سنو یقیناً یہی لوگ (منافقین) پاگل ہیں لیکن یہ حقیقت سے آگاہ نہیں۔ (البقرہ)

ان کی دیوانگی کیا تھی؟ نقطہ یہ کہ وہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اللہ و رسول سے محبت و عقیدت رکھتے تھے، ان کا محبت و اطاعت میں جان کی بازی لگانا ان کے لئے سب سے قابل فخر و ناز عمل تھا، حضور ﷺ سے ان کے والہانہ لگاؤ کے مختلف مظاہر میں سے بطور محبت آپ ﷺ کے سراپا کو اپنے اذہان میں محفوظ کرنا بھی ہے۔

ہم نے اس مقالہ میں اس خوبصورت پہلو پر مواد جمع کیا ہے، ان موضوعات پر بھی کام شائع ہو رہا ہے، جسم نبوی کی خوشبو، مزاج نبوی، تبسم نبوی، گریہ نبوی، صحابہ اور علم نبوی، رفعت ذکر

نبوی، حضور کی رضاعی مائیں، مشتاقان جمال نبوی کی کیفیات جذب و مستی، صحابہ اور تصور رسول، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں بھی آپ ﷺ کی صورت و میرت سے ہر شے سے بڑھ کر محبت و پیار نصیب ہو جائے۔

اسلام کا ادنیٰ خادم

محمد خان قادری

تصور رسول کے لئے ذکر حلیہ و سراپا

اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، بارگاہ مصطفوی ﷺ کے آداب سے واقف ہونے کے باعث آپ ﷺ کی صورت طیبہ اور سیرت مطہرہ دونوں کے دل و جان سے شیدا تھے۔ انہیں آپ ﷺ کی ذات والاصفات کے ہر گوشے سے والہانہ محبت تھی۔ آپ ﷺ سے ان کی وارثی و شفقتی درجہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ صحابہ حضور ﷺ کی صورت و سیرت کے بیان سے اپنی محافل کو آراستہ کرتے۔ آپ ﷺ کے شامل مبارکہ کے ذکر سے اپنے ایمان کی شمع فروزاں رکھتے۔

(۱) آپ کا سراپا اور سیدنا ابو ہریرہ کا معمول :-

مشہور تابعی حضرت سعید بن المسیب ؓ کے صاحبزادے محمد ؓ، سیدنا ابو ہریرہ ؓ کے بارے میں روایت فرماتے ہیں۔ آپ ﷺ جب کسی دیہاتی یا کسی ایسے شخص کو پالیتے جس نے آپ ﷺ کا دیدار نہ کیا ہوتا تو اسے بٹھالیتے اور اس سے اپنے آقا کے حسن و جمال کا تذکرہ کر کے اپنے دل کو تسلی دیتے۔

"سیدنا ابو ہریرہ ؓ کا ساری زندگی یہ عمل رہا جب کسی ایسے شخص کو پالیتے جس نے محبوب خدا ﷺ کے حسن و جمال کا نظارہ نہ کیا ہوتا تو اسے کہتے کہ آ! میں تجھے آپ ﷺ کے شامل سنانا ہوں اور اس کے بعد آپ ﷺ کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے (آخر میں فرماتے) میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! میں نے آپ کی مثل نہیں دیکھا"۔ (طبقات ابن سعد، ۱: ۴۱۳)

(۲) مجھ سے آپ ﷺ کا سراپا سن لو، صحابی کا اعلان :-

حضرت سعید الجزیری فرماتے ہیں :-

میں صحابی رسول ابو طفیل ؓ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو انہوں نے فرمایا، آج میرے سوا دیدار مصطفیٰ ﷺ سے مشرف ہونے والا کوئی بھی شخص روئے زمین پر موجود نہیں۔

میں نے بطور تعجب پوچھا :-

"آپ نے حضور ﷺ کی زیارت کی ہے؟"

انہوں نے فرمایا :-

"ہاں"

میں نے ان سے عرض کیا :-

"مجھے بھی آپ کے شامل سنائیں۔"

تو انہوں نے یادیں تازہ کرتے ہوئے کہا :-

"آپ کا رنگ مبارک سفید، روشن اور منٹھا تھا"۔ (طبقات ابن سعد، ۱: ۴۱۷، ۴۱۸)

(۳) اب تو میں بھی پہچان سکتا ہوں :-

حضرت حشرم بن بشار سے روایت ہے کہ بنی عامر قبیلے کا ایک آدمی صحابی رسول

حضرت ابوامامہ باہلی ؓ کے پاس آیا اور کہنے لگا :-

"اے ابوامامہ آپ عربی اور فصیح لسان ہیں۔ آپ بات خوب بیان کرتے ہیں

مجھے آقا ؐ کے دو جہاں ؓ کے حلیہ اقدس کے بارے میں اس طرح بیان کریں۔

جیسے میں آپ ؓ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابوامامہ نے آپ کا

حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ آپ ؓ کا رنگ مبارک سفید سرخی مائل تھا،

آنکھیں سیاہ اور ابرو باریک تھے۔ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی"۔

جب حضرت ابوامامہ نے آپ ؓ کے حلیہ کا ہر گوشہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا وہ

آدمی پکاراٹھا۔

"آپ نے کیا ہی خوب حلیہ بیان کیا ہے اگر آپ ؓ تمام مخلوق کے درمیان

بھی موجود ہوں تو میں پھر بھی آپ کو پہچان لوں گا"۔

(۴) مجھے آپ ؓ کے حسن و جمال کے بارے میں بتائیں :-

حضرت عمار بن یاسر ؓ کے پوتے ابو عبیدہ، حضور ﷺ کی صحابیہ حضرت ربیعہ بنت

معو زرضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگے:-

"مجھے آپ ﷺ کے حسن و جمال کے بارے میں کچھ بتائیں۔"

انہوں نے آپ ﷺ کا سراپا بیان کرتے ہوئے فرمایا:-

"اے بیٹا! اگر تو حضور ﷺ کے چہرہ انور کی زیارت کرتا تو ایسے پاتا جیسے سورج

چمک رہا ہے۔" (سبل الہدی، ۶:۲)

(۵) آپ ﷺ چودھویں کے چاند جیسے تھے:-

حضرت ابواسحاق ہمدانی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے کی ایک خاتون کو یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی معیت میں حج کیا، واپسی پر انہوں نے لوگوں کو آپ ﷺ کا سراپا اور حسن و جمال بیان کیا تو میں نے ان سے کہا:-

"مجھے تو کسی مخصوص شئی کے ساتھ تشبیہ دے کر بتاؤ آپ کیسے ہیں؟"

تو فرمانے لگیں:-

"آپ چودھویں کے چاند کی طرح ہیں۔ میں نے ان سے پہلے اور بعد ان کی

مثل نہیں دیکھا" (سبل الہدی، ۱۰:۲)

(۶) حضرت ام معبد اور آپ کا سراپا:-

ہجرت کے سفر میں آپ ﷺ دوران سفر ایک خاتون حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ دیر کے لئے رکے تھے ان کا خیمہ راستہ کے کنارے پر تھا۔ سیدنا ابو بکر ﷺ بیان کرتے ہیں ہم نے اس خاتون سے دودھ کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگیں، ہماری بکری نہایت کمزور ہے اس کے تئوں میں دودھ کہاں؟ آپ ﷺ نے فرمایا اے خاتون! اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بکری کو دودھ کر دیکھ لیتے ہیں وہ کہنے لگیں آپ اسے ضرور دھوئیں مگر یاد رہے ابھی یہ دودھ کی عمر کو پہنچی نہیں ہے۔

"آپ ﷺ نے اسے پاس بلایا اور اس کے تئوں اور پشت پہ دست اقدس

پھیرا۔ اللہ بزرگ برتر کا مبارک نام لیا۔ بکری کے لئے دعا فرمائی تو اسی وقت

اس کے تئوں دودھ سے بھر گئے۔ آپ ﷺ نے ایسا برتن منگوا لیا جس سے

خاندان سیر ہو جاتا تھا اور اس میں بکری کا دودھ دھویا۔ تمام موجود لوگوں نے وہ

دودھ پیا آپ ﷺ نے دوبارہ دھویا حتیٰ کہ گھر کے تمام برتن بھر گئے۔"

یہ بکری ہمارے پاس دور فاروقی تک رہی:-

ابن سعد اور ابو نعیم نے حضرت ام معبد کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ مبارک بکری

ہمارے پاس دور فاروقی (اٹھارہ ہجری) تک رہی۔

"آپ کے دست اقدس کی یہ برکت تھی کہ ہم اس سے اُن دنوں میں بھی صبح و

شام دودھ حاصل کرتے۔ جب زمین پر قحط کی وجہ سے چارہ تک نہ ہوتا۔"

تھوڑی دیر کے بعد حضرت ام معبد کے خاندان ابو معبد آئے۔ انہوں نے دیکھا گھر کا

نقشہ ہی بدلا ہوا ہے۔ پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا حالانکہ ہمارے گھر میں کوئی جانور دودھ نہیں دیتا

انہوں نے فرمایا۔

"اللہ کی قسم! آج یہاں سے ایک مقدس ہستی کا گزر ہوا ہے جن کی یہ شان ہے۔"

خاندان نے سن کر کہا کہ خدا کی قسم یہ وہی جوان ہے، قریش جس کی تلاش میں ہے۔ اگر

میں اسے پالوں تو میں اس کی غلامی اختیار کر لوں گا۔

اس پر حضرت ام معبد نے ان الفاظ میں آپ کا سراپا بیان کیا:-

میں نے ایسی نور نور شخصیت کا دیدار کیا ہے جو نہایت خوبصورت چہرہ، گھنے اور

دیدہ زیب بال، سرگی آنکھیں، طویل ابرو، دلکش آواز، آنکھوں میں سرخ

دھاری، بلند گردن، گھنی داڑھی، خاموش ہوں تو صاحب وقار، گفتگو کریں تو چھا

جائیں اور نور پھیل جائے، مٹھوری باتیں، گفتگو ایسی گویا موتیوں کی لڑی ہو۔

دور سے دیکھنے والا مرعوب اور قریب سے دیکھنے والا اپنائیت محسوس کرے۔ قدر

انور نہ زیادہ لمبا اور نہ ہی چھوٹا۔ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ وہ ایسے لگتے

تھے جیسے دو شاخوں میں ایک خوبصورت شاخ نکلتی ہے۔ ان کے رفقاء نہایت

مؤدب ان کی باتیں انتہائی انتہاک سے سننے والے، اگر وہ کسی بات کا حکم دیں تو بجالانے میں عجلت سے کام لیں۔ ان میں کثرت کے ساتھ اجتماعیت ہے۔
 نہ ہی ان میں کمزوری ہے اور نہ ہی تنگی و ترشی"۔ (شائل الرسول، ۱: ۵۸)

مجھے آپ کے سراپا کے بارے میں آگاہ کیجئے:-

حضرت امام حسن مجتبیٰ ؑ کا بیان ہے کہ میں حضور ؐ کے وصال کے وقت بہت چھوٹا تھا۔ اس لئے میں اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی ہالہ ؑ (جو حضور ؐ کے حلیہ مبارک کے راویوں میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں) سے آپ ؐ کے شائل کے بارے میں سوال کرتا تھا تاکہ میں بھی آپ ؐ کے حلیہ مبارک کا نقشہ اپنی لوح دل پر جماسکوں۔
 ذکر حلیہ و سراپا کا فائدہ، حصول تصور رسول ؐ:-

سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے الفاظ پر نظر ڈالیئے:-

"سالت خالی هند بن ابی ہالہ ریبب النبی ؐ و انا اشتہی ان

یصف لی منها شیء اتعلق بہ

ترجمہ:- میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی ہالہ (جو کہ وصاف نبی کے نام سے مشہور تھے) سوال کیا مجھے بھی آپ ؐ کے شائل و فضائل بیان فرمائیں تاکہ میں یہ سن کر آپ کی ذات اقدس سے تعلق قائم کرسکوں"۔ (شائل ترمذی)

(۱) حضرت ملا علی قاری "اتعلق بہ" کا ترجمہ کرتے ہیں:-

"تاکہ ان کے ذریعے میرا تعلق آپ سے پختہ ہو جائے اور میں آپ کو ذہن و خیال میں بسالوں"۔ (جمع الوسائل، ۱: ۳۳)

(۲) شیخ عبداللہ سراج الدین شامی نے علماء امت کے حوالے سے امام حسن ؑ، کے سوال کی حکمت ان الفاظ میں ذکر کی ہے:-

"امام حسن ؑ، نے حضرت ہند ؑ سے اس لئے سوال کیا کہ جب حبیب خدا ؐ کا وصال ہوا تو اس وقت امام حسن ؑ ابھی چھوٹے تھے اس لئے چاہا کہ آپ

ؑ کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہو جائے تاکہ میں آپ ؐ کی صورت مبارک کو اپنے دل میں اور خیال کی حتمی پر نقش کر لوں"۔ (سیدنا محمد رسول اللہ، ۲۱۶)

(۳) مذکورہ شیخ نے مقدمہ کتاب میں شائل نبوی ؐ کے فوائد پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا کہ اس سے صورت طیبہ عملی طور پر دل و نگاہ میں نقش ہو جاتی ہے۔

"انسان کو آپ ؐ کے اوصاف عظیمہ اور شائل کریمہ کی اطلاع سے یہ فائدہ نصیب ہو جاتا ہے کہ آپ ؐ کی صورت علیہ قلب میں نقش ہو جاتی ہے اور خیال میں اس طرح بیٹھ جاتی ہے گویا اس نے محبوب کریم ؐ کو دیکھ لیا ہے"۔

(سیدنا محمد رسول اللہ، ۷)

(۴) مولانا محمد میاں رئیس الافقاء جامعہ امینیہ دہلی "عمدۃ الملیب" پر تقریباً لکھتے ہیں:-

"رسول اللہ ؐ کے شائل، خصائل اور اخلاق ایسا شفاف آئینہ ہیں جس کے ذریعے ہم آپ ؐ کی شخصیت مبارک کو انوار و تجلیات اور خصائل شائل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور آپ ؐ کے چہرہ اقدس کے حسن و جمال اور مبارک رخسار اور پیشانی کی زیارت کا شرف پاسکتے ہیں کسی نے کیا خوب کہا۔ اگرچہ ذات محبوب کو آنکھوں سے نہ دیکھا جاسکا لیکن اس کے شائل تو سامنے ہیں"۔

(عمدۃ الملیب، ۱۵)

(۵) شارح شیم الحیب مولانا نایا ز احمد مقدمہ میں لکھتے ہیں:-

"شائل نبوی کا بیان اول و آخر تمام مخلوق کے شفع ؐ کی خدمت کے ساتھ دلوں کو آپ ؐ کی تعظیم اور محبت سے مالا مال کرنے کا وسیلہ، آپ ؐ کے طریق و سنت کی پیروی کا ذریعہ اور آپ ؐ کے مشاہدہ و زیارت میں معاون ہے"۔

(عمدۃ الملیب، ۱۸)

(۶) آگے چل کر لکھتے ہیں:-

آپ ؐ کی صفات کی معرفت عارف کے لئے آپ ؐ کی ذات اقدس کے

مشاہدہ اور خواب و بیداری میں آپ ﷺ کے دیدار کا سبب بن جاتی ہے۔

(عمدة الملیب، ۲۲)

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہما کے الفاظ "انا اشتہی ان یصف لی منها شیء اتعلق بہ" (میں چاہتا ہوں کہ ان اوصاف کے ذریعے آپ ﷺ کی حسین صورت کو دل و دماغ میں محفوظ کر لوں) واضح طور پر اس بات پر دلالت ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حسین یادوں کے ساتھ آپ کی شخصیت مبارک کو اپنے قلوب و اذہان میں ہر وقت محفوظ رکھنے کے لئے کوشاں رہتے اور وہ آپ کی ہر ادا کو کبھی بھی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ بلکہ جب بھی آپ کا تذکرہ چھڑتا تو ہر صحابی آپ کی کسی نہ کسی ادا کا اس طرح ذکر کرتا۔ جیسے وہ اب بھی اس حیات آفریں منظر کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ صحابہ کے اذہان میں محفوظ کردہ چند اداؤں کا تذکرہ بیان کیا جا رہا ہے۔

اذہان صحابہ میں محفوظ چند اداؤں کا تذکرہ

(۱) مبارک ہونٹوں کے نیچے مسواک دیکھ رہا ہوں:-

ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما دو آدمیوں کے ساتھ آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں کسی غرض سے حاضر ہوئے تو آپ ﷺ مسواک فرما رہے تھے۔ انہوں نے آپ ﷺ کی اس مبارک ادا کو اس طرح اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ جب بھی مذکورہ معاملہ کا تذکرہ کرتے تو ساتھ اس بات کا اضافہ کرتے۔

"میں آج بھی (تصور میں) آپ کے مبارک ہونٹوں کے نیچے مسواک دیکھ رہا ہوں"۔ (المسلم، ۲۰)

(۲) سیاہ عمامہ کے کونے مبارک شانوں کے درمیان:-

حضرت عمر بن حریث رضی اللہ عنہما اپنے والد گرامی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ وہ جب بھی اپنے آقا ﷺ کا تذکرہ کرتے تو یہ بھی بیان کرتے:-

"میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ میرے آقا ﷺ منبر پر جلوہ افروز ہیں۔ آپ ﷺ کے

سراقدس پر سیاہ رنگ کا عمامہ ہے جس کے دونوں کونے آپ ﷺ کے مبارک شانوں کے درمیان لٹک رہے ہیں"۔ (المسلم، ۲۳۰)

(۳) مانگ میں خوشبو کی چمک کا حسین منظر:-

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ ﷺ کے جسم اقدس پر خوشبو لگائی۔ آپ جب بھی سر کا ردو عالم کے حج کا تذکرہ فرماتیں تو کہتیں:-

"آج بھی وہ حسین منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے کہ آپ ﷺ حالت احرام میں تھے اور آپ کے سراقدس کی مانگ میں خوشبو کی چمک تھی"۔ (بخاری، ۲۰۸)

امام قسطلانی "کافی انظر" کے تحت لکھتے ہیں:-

"آپ کا یہ فرمان کہ میں اب بھی اس خوشبو کی چمک (کے دلربا منظر) کو دیکھ رہی ہوں کثرت استحضار کے پیش نظر تھا"۔

(۴) انگوٹھی کو چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں:-

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول پاک ﷺ قیصر کی طرف اپنا پیغام ارسال فرمانے لگے تو اس پر آپ ﷺ نے مہر ثبت نہیں فرمائی۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا:-

"یا رسول اللہ وہ بغیر مہر یہ پیغام نہیں وصول کرے گا اور نہ پڑھے گا"۔

آپ ﷺ نے اس مشورہ کو قبول فرمایا:-

"اور آپ ﷺ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس پر نقش کروایا اور اس نقش کے الفاظ محمد رسول اللہ ﷺ تھے"۔

اس کے بعد آپ ﷺ اسے پہنتے اور اس کے ساتھ خطوط پر مہر ثبت فرماتے حضرت انس رضی اللہ عنہما یہ بات بیان کرنے کے بعد ہمیشہ کہتے:-

"میں آج بھی چشم تصور میں آپ کے مبارک ہاتھ پر اس انگوٹھی کو چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں"۔ (طبقات ابن سعد، ۲۷۱)

(۵) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی ایک آدمی نے یہ سوال کیا:-

"کیا آپ رضی اللہ عنہ انگوٹھی پہنا کرتے تھے"

آپ نے اس شخص کو اپنے پاس بٹھالیا اور درج ذیل واقعہ سنایا کہ:-

ایک دن آپ رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز پڑھانے کے لئے دیر سے تشریف لائے۔ آپ نے جماعت کروائی اور اس کے بعد آپ نے اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کر کے فرمایا۔ باقی لوگ نماز پڑھ کر سوچے لیکن تمہارا نماز و جماعت کا انتظار کرنا یوں ہے جیسے تم نماز میں مشغول رہے۔

یہ واقعہ سنانے کے بعد مسائل سے کہنے لگے:-

"مجھے اس لمحہ بھی (اس رات) آپ کے ہاتھ پر پہنی ہوئی انگوٹھی کی چمک دک

نظر آ رہی ہے"۔ (طبقات ابن سعد، ۱: ۴۷۲)

یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ مسائل نے آپ سے فقط اتنا پوچھا کہ کیا آپ رضی اللہ عنہ انگوٹھی پہنا کرتے تھے؟ اس کا جواب بڑا واضح تھا کہ ہاں آپ رضی اللہ عنہ نے انگوٹھی پہنی ہے۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس جواب پر اکتفاء کرنے کے بجائے ایک واقعہ سنایا اور پھر انگوٹھی کا ذکر، اس کے ساتھ اپنی وابستہ یادوں کے ساتھ کیا۔ کیوں کہ اہل محبت کی علامت اور ان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ذکر محبوب کے لئے بہانے تلاش کرتے ہیں اور جب بات چمڑ جاتی ہے۔ تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اب یہ سلسلہ ختم نہ ہونے پائے۔

(۶) مبارک بگلوں کی سفیدی میری آنکھوں کے سامنے:-

حضرت عبد بن اقرم الخزامی کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد گرامی نے بیان کیا کہ

میں اور میرے والد عذرا کے مقام پر تھے۔

"تو ہمارے پاس سے اونٹ سواروں کا ایک قافلہ گزرا جس نے راستے کی ایک

جانب اپنے اونٹوں کو بٹھا دیا"۔

میرے والد نے مجھے اس قافلے کی طرف متوجہ کیا۔ اس کے بعد نماز کے لئے اذان و

کعبیر کہی گئی۔

ہم بھی اپنا کام چھوڑ کر اس قافلے کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرنے کے لئے ان کے

پاس چلے گئے جب وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ:-

"ان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں (ہم نے زیارت بھی کی) اور آپ

کے ساتھ نماز ادا کی"۔

میرے والد نے جو چند لمحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے تھے۔ ان لمحات کی یادیں

ان کے لوح قلب و ذہن پر کچھ اس طرح ثبت ہو کر رہ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ مبارک کی کیفیت

کو بیان کرتے ہوئے کہتے۔

"میں آج بھی سجدہ کرتے وقت آپ کی مبارک بگلوں کی سفیدی کو (چشم تصور

میں) دیکھ رہا ہوں"۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بھی آپ کے سجدے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے پکارا تھے:-

"سجدہ کرتے وقت آپ کی مبارک بگلوں کی جو سفیدی ظاہر ہوتی تھی وہ اب

بھی میری نگاہوں میں ہے"۔ (طبقات ابن سعد، ۱: ۴۷۲)

(۸) پنڈلیوں کی زیارت کا پڑ کیف منظر:-

حضرت ابو جحیفہ اپنے والد گرامی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میں اٹح کے مقام پر

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کے خیر میں سرخ رنگ کا

جبہ اور لباس زیب تن فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سرخ لباس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سفید

پنڈلیاں ظاہر ہوئیں۔ آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کی وہ چمک میری آنکھوں کے سامنے ہے اور

میں اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتا ان کے محبت بھرے الفاظ ملاحظہ کر کے ذوق حاصل کیجئے۔

میں نے عرض کیا:-

یا رسول اللہ! میری ایک بیٹی ہے میں چاہتا ہوں اپنے مال میں سے دو تہائی صدقہ کی وصیت کروں۔ اور ایک تہائی بیٹی کے لئے رہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو عرض کیا نصف کر لیتا ہوں۔ فرمایا ایسا نہ کرو۔ عرض کیا ایک تہائی صدقہ اور دو تہائی بیٹی کے لئے کرتا ہوں۔ فرمایا ہاں۔ تہائی میں وصیت کرو اور تہائی کافی ہے۔ اس کے بعد آپ نے میری پیشانی پر دست اقدس رکھا۔ پھر اسے میرے چہرے اور لہجے پر پھیرا۔ اور یہ دعا دی۔ اے اللہ سعد کو شفاء دے اور اس کی ہجرت کو کامل فرما۔

"میں آج تک جس وقت بھی اس حسین منظر کو یاد کرتا ہوں تو اپنے سینہ میں دست اقدس کی ٹھنڈک پاتا ہوں"۔ (بخاری، کتاب الوصایا)

(۱۲) پاؤں کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں:-

حضرت عمرو بن ابی عمرو المزنی سے مروی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقعہ پر میری عمر پانچ یا چھ سال تھی۔ یوم نحر کو میرے والد مجھے منیٰ میں اس مقام پر لے گئے۔ جہاں رسول اللہ ﷺ اپنی سواری پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔

"میں نے پوچھا یہ مبارک شخصیت کون ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ اللہ کے رسول ہیں۔" میں سن کر آگے بڑھا اور آپ کے اتنا قریب ہوا۔ یہاں تک کہ میں نے آپ کی پنڈلی کو پکڑ لیا۔ پھر میں نے اسے تہر کا چھوا۔ اس کے بعد اپنا ہاتھ آپ کے تلوؤں کے ساتھ لگایا۔ "پس اب بھی میں اپنے ہاتھ میں ان کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں"۔

(سیدنا محمد رسول اللہ، ۳۸۶)

(۱۳) سبابہ کا حسن نہیں بھولتا:-

حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ عنہا آپ کے مبارک پاؤں کی انگلیوں کے حسن و جمال کے بارے میں بیان کرتی ہیں۔ کہ میں نے اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی

"میں ابلح کے مقام پر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ سرخ رنگ کے خیمہ میں جلوہ افروز تھے۔ اور جب باہر تشریف لائے تو آپ سرخ رنگ کا جبہ اور لباس زیب تن کئے ہوئے تھے اسی دوران جو آپ کی مرمیں پنڈلیوں کی زیارت نصیب ہوئی وہ پر کیف منظر آج بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے"۔ (بخاری کتاب المناقب)

(۹) سر پر ہاتھ رکھنا ہمیشہ یاد آتا ہے:-

حضرت عبداللہ بن ہلال انصاری ؓ سے منقول ہے کہ مجھے میرے والد گرامی اللہ تعالیٰ کے حبیب ﷺ کی خدمت اقدس میں لے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے بیٹے کے لئے دعا کیجئے۔

سرور عالم ﷺ نے اپنا مقدس ہاتھ میرے سر پر رکھ کر دعا فرمائی:-

"حضور ﷺ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا میں نے اپنے سینہ میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی اور یہ مجھے آج تک نہیں بھولتا"۔ (سیدنا محمد رسول اللہ، ۳۷۸)

(۱۰) چہرہ اقدس کی سفیدی اور زلفوں کی سیاہی ہمیشہ نظروں کے سامنے رہتی ہے:-
حضرت جابر ؓ، حضرت ابوالطفیل ؓ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ ﷺ کی جو زیارت کی تھی۔

"آپ کے چہرہ اقدس کی سفیدی اور مبارک بالوں کی سیاہی میں بھول نہیں پاتا"۔ (طبقات ابن سعد، ۱: ۲۱۹)

(۱۱) اب تک سینے میں ٹھنڈک ہے:-

حضرت سعد ؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مکہ معظمہ میں سخت بیمار ہو گیا۔ رحمۃ اللعالمین ﷺ میری عیادت کے لئے تشریف لائے۔

زیارت کا شرف پایا۔ اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے۔ اور آپ کے ہاتھ میں چھتری تھی میرے والد نے قریب ہو کر آپ ﷺ کا مبارک قدم پکڑ لیا۔ اس موقع پر میں نے پاؤں مبارک کی انگلیوں کی زیارت کا شرف فرمایا۔

"مجھے آپ کی سبابہ کا دیگر انگلیوں سے اعتدال کے ساتھ طویل ہونا نہیں بھولتا۔"

(۱۳) مبارک بازوؤں کی چمک اب بھی دیکھ رہا ہوں:-

حضرت مطلب بن ابی وراعہ ؓ سے مروی ہے کہ جب حضرت عثمان بن مظعون ؓ کا وصال ہوا اور آپ کو دفن کیا گیا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو حکم دیا جا کر فلاں پتھر لاؤ۔ اس شخص سے وہ پتھر اٹھایا نہ جاسکا۔ تو رسول اللہ ﷺ اپنی مبارک آستین چڑھاتے ہوئے اٹھے۔ جس ریلوی نے مجھے یہ حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں:-

"گویا میں اب بھی آپ ﷺ کے مقدس بازوؤں کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ جب

آپ نے آستین چڑھائے۔" (مشکوٰۃ المصابیح باب دفن المیت)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان الفاظ کا ترجمہ یوں کیا ہے:-

"گویا میں اس وقت بھی رسول اللہ ﷺ مقدس بازوؤں کی سفیدی تک رہا

ہوں۔" (اشعۃ اللمعات، ۱: ۶۹۵)

(۱۵) اب تک دیوار پر دست اقدس کا نشان دیکھ رہی ہوں:-

امام شعبی، امام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب جنابت کا غسل فرماتے تو ابتدا میں وضو فرماتے، امتحان فرماتے اور ہاتھ دیوار پر رگڑتے اور ان پر پانی ڈالتے۔

"گویا میں اب بھی دیوار پر آپ کے مبارک ہاتھ کا نشان واضح رہی ہوں۔"

(مسند احمد، ۷: ۳۳۷)

(۱۶) میں انگلی چوستے ہوئے دیکھ رہا ہوں:-

سیدنا ابو ہریرہ ؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے گود میں گفتگو کرنے والے بچوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ بنی اسرائیل کی خاتون بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے پاس سے ایک خوبصورت شکل والماسوار گزرا۔ اس خاتون نے دعا کی۔ اے اللہ! میرے بچے کو اس سوار جیسا بنا دے وہ بچہ دودھ چھوڑ کر سواری کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا۔ اے اللہ! مجھے ہرگز ایسا نہ بنا پھر اس نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس موقع پر آپ ﷺ نے سمجھانے کے لئے مبارک منہ میں انگلی ڈال کر اسے چوسا حضرت ابو ہریرہ ؓ کہتے ہیں۔

"گویا میں اب بھی آپ ﷺ کو منہ میں انگلی ڈالے دیکھ رہا ہوں۔"

(بخاری، ۱: ۳۸۹)

(۱۷) نماز میں آپ کا ہاتھ باندھنا مجھے نہیں بھولتا:-

حضرت حارث بن عطف ؓ کا بیان ہے میں بہت سی چیزوں کو بھول گیا ہوں بہت سی مجھے یاد بھی ہیں مگر:-

"میں نے رسول اللہ ﷺ کو نماز میں بائیں ہاتھ پر دائیں رکھتے ہوئے دیکھا

اسے میں بھول نہیں پاتا۔" (اسد الغابہ، ۱: ۳۱۰)

(۱۸) اب تک جی میں سیرابی ہے:-

امام قاسم بن ثابت "الدلائل" میں حضرت حنظل ؓ سے روایت کرتے ہیں مجھے حضور ﷺ نے اسلام کی دعوت دی، جسے قبول کرتے ہوئے میں مسلمان ہو گیا۔

"مجھے آپ ﷺ نے اپنے بچے ہوئے ستوپلائے اب مجھے جب پیاس لگتی ہے تو

میں ان کی سیرابی پاتا ہوں جب بھوک لگتی ہے تو میں اپنے آپ کو سیر ہونے والا

محسوس کرتا ہوں۔" (سبل الہدی والرشاد، ۱: ۴۱)

(۱۹) اب تک سینے میں ٹھنڈک ہے:-

اسی طرح کا واقعہ امام طبرانی نے حضرت ابو عقیل الدیلی رضی اللہ عنہ کا بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام و ایمان کی دولت پالی۔

"مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو پلائے پہلے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پے پھر مجھے دیئے جب پیاس لگتی ہے تو دل میں ان کی تراوت پاتا ہوں اور گرمی ہو تو ان کی ٹھنڈک پاتا ہوں"۔ (المحج، ۹: ۳۰۰)

(۲۰) بوریا سے پانی کا بہنا دیکھ رہی ہوں:-

حضرت شریح بن ہانی کہتے ہیں میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز موخر کر کے ادا فرماتے اور فرائض نماز کے بعد گھر میں چار یا چھ رکعات ادا فرماتے۔

"زمین پر کبھی بھی نماز کے لئے کوئی شی نہ بچھاتے ایک مرتبہ بارش کے دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بوریا بچھا دیا جو پھٹا ہوا تھا۔ میں اب بھی دیکھ رہی ہوں اس کی بھٹی ہوئی جگہ سے پانی بہ رہا ہے"۔ (مسند احمد، ۷: ۸۷)

(۲۱) آپ کی قربانیوں کی گانیاں نگاہوں میں:-

ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے لئے خوبصورت گانیاں بنایا کرتیں تھیں، ان کا حسین منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے:-
"میں اب بھی ان گانوں کو دیکھ رہی ہوں جنہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کے لئے بنایا کرتی تھی"۔ (مسند احمد، ۷: ۳۷۴)

(۲۲) دست مبارک کو حرکت دیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں:-

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت کا تالابوں کھولوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ دست مبارک کو بھی حرکت دی۔

"حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھوں کو حرکت دینا اب بھی میری نگاہوں میں ہے۔"

(سنن داری، ۱: ۳۱۰)

(۲۳) دست مبارک کے اشارہ سے لوگوں کو بٹھانا اب بھی میرے سامنے ہے:-

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی القاء میں نماز عید الفطر کی مرتبہ ادا کی ہے تمام مرتبہ پہلے نماز پڑھاتے پھر خطبہ دیتے:-

"ایک مرتبہ آپ خطبہ کے بعد منبر سے اچھے تشریف لائے، اب بھی وہ خوبصورت منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشارہ سے لوگوں کو بٹھانے کا حکم لہا رہے تھے"۔ (بخاری، ۲: ۷۲۷)

(۲۴) آپ کا پاؤں کو حرکت دینا نہیں بھولتا:-

آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سال پہلے پیدا ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میری والدہ کو اطلاع دی گئی کہ:-
"جناب آمنہ رضی اللہ عنہا کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ مجھے ساتھ لے کر ان کے ہاں تشریف لے گئیں"۔

جب ہم ان کے حجرہ میں داخل ہوئے اس موقع پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی:-
"وہ منظر اب بھی میری آنکھوں کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کو حرکت دے رہے تھے۔ خواتین نے مجھے کہنا شروع کیا تیرا ساتھی پیدا ہوا ہے اسے بوسہ دو"۔

(المستدرک، ۳: ۳۶۳)

(۲۵) رسول اللہ کا ذوالسجادین کو قبر میں اتارنا میری نگاہوں میں ہے:-

حضرت عبداللہ ذوالسجادین رضی اللہ عنہ بچپن میں یتیم ہو گئے چچا نے پالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں محبت ہو گئی کافر چچا کو معلوم ہوا تو اس نے کہا:-

"اگر تو نے محمد (ﷺ) کی اتباع کر لی تو میں تجھے دی ہوئی ہر شے چھین لوں گا۔"

انہوں نے اعلان کر دیا میں حضور ﷺ کے دامن سے وابستگی اختیار کر چکا ہوں۔ تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔

"تو چچانے اپنی دی ہوئی تمام اشیاء واپس لے لیں حتیٰ کہ کپڑے بھی اتار لئے۔"

اپنی والدہ کے پاس حاضر ہوئے اور معاملہ عرض کیا انہوں نے ایک کسبل دیا، صحابی نے اس کے دو حصے کئے ایک تہہ بند بنا لیا اور دوسرے کو اوپر اڑھ کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آپ ﷺ نے دیکھا تو فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کیا عبدالعزیز فرمایا آج کے بعد تمہارا نام عبداللہ ذوالحجاء دین ہے۔

"تم میرے پاس رہو گے تو پھر وہ آپ کی چوکھٹ پر بیٹھے رہا کرتے تھے۔"

ان کا وصال غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب انہیں قبر میں اتارنے لگے تو آپ ﷺ نے فرمایا:

"اپنے بھائی کو میرے قریب کرو آپ نے قبلہ کی طرف سے انہیں ہاتھوں میں لیا اور قبر میں رکھا۔"

پھر آپ ہا ہر تشریف لائے، قبلہ رخ ہو کر یہ دعا کی:-

"اے اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا۔"

کاش یہ قبر میری ہوتی:-

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس صحابی کی روئیداد بیان کرنے کے بعد دو باتیں

فرماتے:-

"کاش آج صاحب قبر میں ہوتا۔"

دوسری روایت میں ہے:-

"اللہ کی قسم! کاش، ان کی جگہ میں ہوتا۔ حالانکہ میں ان سے چندہ سال پہلے

اسلام لایا ہوں۔"

اور دوسری بات یہ فرماتے:-

آج بھی وہ منظر میرے سامنے ہے کہ رسول اللہ ﷺ عبد اللہ کی قبر میں تشریف

فرمائیں۔ (اسد الغابہ، ۳: ۲۲۸)

(۲۷) السلام علیکم فرمانا نہیں بھولتا:-

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:-

"رسول اللہ ﷺ دائیں اور بائیں اس طرح سلام پھیرتے کہ میں آپ کی

سفیدی رخسار کی زیارت کرتا اور اب تک میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرماتا نہیں

بھول پاتا۔" (مسند احمد، ۱۱: ۲)

(۲۷) اب بھی چہرہ اقدس سے خون صاف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں:-

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ ہر اذنہ کے مقام پر رسول اللہ ﷺ غزوہ

حنین سے حاصل شدہ مال قیمت تقسیم فرما رہے تھے، لوگوں کا خوب اڑوہام تھا تو آپ ﷺ نے

فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو قوم کی طرف بھیجا انہوں نے اسے مارا اور

زخمی کر دیا اور وہ اس کے باوجود اپنے پھرے سے خون صاف کرتے ہوئے کہتا ہے اے میرے

رب میری قوم کو معاف فرما دے یہ مجھے نہیں جانتی حضرت عبداللہ کہتے ہیں۔

"میں اب بھی آپ ﷺ کا مبارک پیشانی سے خون کا صاف کرتا نہیں بھول پاتا۔"

(مسند احمد، ۲: ۲۱)

(۲۸) رخسار مبارک کی سفیدی میرے سامنے ہے:-

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کی نماز کے موقع پر سلام پھیرنے کے بارے

میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:-

"آپ کے بائیں طرف سلام پھیرنے کے وقت سفیدی رخسار اب بھی میری

نگاہوں میں ہے۔" (مسند احمد، ۲: ۵۳)

(۲۹) خدمت اقدس میں جانا مجھے نہیں بھولتا:-

حضرت عبداللہ بن بلال رضی اللہ عنہ کہا کرتے مجھے وہ لمحہ ہمیشہ یاد آتا ہے جب میرے والد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! اس کے لئے دعا فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر دست کرم رکھا اس کی وجہ سے سینہ میں جو ٹھنڈک محسوس ہوئی وہ اب بھی میں بھول نہیں پاتا الفاظ روایت پڑھئے:-

"مجھے وہ لمحہ نہیں بھولتا جب والد گرامی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! اس کے لئے برکت کی دعا فرمائیے اور مجھے آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اب بھی محسوس ہو رہی ہے جو آپ نے میرے سر پر رکھا تھا"۔ (اسد الغابہ، ۳: ۳۰۲)

(۳۰) ثنیہ کی گھاٹیوں سے تشریف لانا میری نگاہوں میں ہے:-

حضرت عبداللہ بن ابی لیلیٰ انصاری رضی اللہ عنہ سے ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے اس وقت میری عمر تقریباً پانچ سال ہوگی میں نے دیگر انصاری بچوں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔

"وہ منظر اب بھی میری نگاہوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثنیہ کی گھاٹیوں سے تشریف لارہے ہیں اور اردگرد آپ کے صحابہ ہیں"۔

جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو میں کافی با شعور ہو چکا تھا میں نے صحابہ کو دیکھا:-
"وہ سردوں اور کپڑوں پر مٹی ڈال رہے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ رو رہا تھا"۔ (اسد الغابہ، ۳: ۳۷۴)

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان کی سرگرمیاں

ہفت واری اجتماع:-

• بیت اشاعت اہلسنت پاکستان کے زیر اہتمام ہر پیر کو بعد نماز عشاء تقریباً ۱۰ بجے رات کو نور مسجد مانڈی بازار کراچی میں ایک اجتماع منعقد ہوتا ہے جس سے مقتدر و مختلف علمائے اہلسنت مختلف موضوعات پر خطاب فرماتے ہیں۔

مفت سلسلہ اشاعت:-

• بیت کے تحت ایک مفت اشاعت کا سلسلہ بھی شروع ہے جس کے تحت ہر ماہ مقتدر علمائے اہلسنت کی کتابیں مفت شائع کر کے تقسیم کی جاتی ہیں۔ خواہش مند حضرات نور مسجد سے رابطہ کریں۔

مدارس حفظ و ناظرہ:-

• جمعیت کے تحت رات کو حفظ و ناظرہ کے مختلف مدارس لگائے جاتے ہیں جہاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔

درس نظامی:-

• بیت اشاعت اہلسنت پاکستان کے تحت رات کے اوقات میں درس نظامی کی کتابیں بھی لگائی جاتی ہیں جس میں ابتدائی پانچ درجوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔

کتب و کیسٹ لائبریری:-

• جمعیت کے تحت ایک لائبریری بھی قائم ہے جس میں مختلف علمائے اہلسنت کی کتابیں مطاوعہ کے لیے اور کیسٹیں سماعت کے لیے مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ خواہش مند حضرات رابطہ فرمائیں۔

پیغامِ اعلیٰ حضرت

امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ

پیارے بھائیو! تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی بھیڑیں ہو
بھیڑیے تمہارے چاروں طرف ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بہکا دیں تمہیں فتنے میں
ڈال دیں تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں ان سے بچو اور دور بھاگو دیوبندی
ہوئے، رافضی ہوئے، نیچری ہوئے، قادیانی ہوئے، چکڑالوی ہوئے، غرض
کتنے ہی فتنے ہوئے اور ان سب سے نئے گاندھوی ہوئے جنہوں نے ان سب کو
اپنے اندر لے لیا یہ سب بھیڑیے ہیں تمہارے ایمان کی تاک میں ہیں ان کے حملوں
سے اپنا ایمان بچاؤ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، رب العزت جل جلالہ کے نور ہیں
حضور سے صحابہ روشن ہوئے، ان سے تابعین روشن ہوئے، تابعین سے تبع تابعین
روشن ہوئے، ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے ان سے ہم روشن ہوئے اب ہم تم
سے کہتے ہیں یہ نور ہم سے لے لو، ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ تم ہم سے روشن ہو وہ نور
یہ ہے کہ اللہ و رسول کی سچی محبت ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی
تکریم اور ان کے دشمنوں سے سچی عداوت جس سے خدا اور رسول کی شان میں ادنیٰ
توہین پاؤ پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو فوراً اس سے جدا ہو جاؤ جس کو بارگاہ
رسالت میں ذرا بھی گستاخ دیکھو پھر وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو، اپنے
اندر سے اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔

(وصایا شریف ص ۳۱۳ از مولانا حسنین رضا)